

وہیں، وہیں اپنے بھائی کا سارا جانشینی کا انتہا کر دیتا۔

"There must be milk anyhow."

"Yes, there was milk", he supposed.

Q.7. Translate the following into English by keeping in view any figurative /idiomatic expression. (10)

کچھ کتابوں کے ہارے میں اکٹھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو بدلتا لائن کتابوں کا احتساب والی رائش اپنی مرنسی اور حالات کے مقابلے کرتے ہیں لیکن جہاں کتابیں دنیا کو بدلتی ہیں وہیں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو دنیا کو مگر ادا کر کے اس کی پسندیدگی کی دسدار ہوتی ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں کتابوں کی اشاعت سے پامنمازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کیا شائع ہونے والی کتابیں دنیا کو بدلتے والی ہیں یا اسے فرسودہ دولیات میں جکڑ کر کھانا ہتی ہیں اس علاوہ سے ہم پاکستان میں شائع ہونے والی کتابوں کا جائزہ میں تو بھی نظر آتا ہے کہ یہ کتابیں زندہ تھیات، فرقہ و ایمانہ چدیاں اور پہ جاؤ یہ فر کے چدیاں سے لوگوں کے ذہنوں کو ہٹ کر رہی ہیں۔ اس وجہ کا انعامہ رائج کے پاکستانی معاشرے میں نظر آتا ہے۔

Best of Luck for CSS-2024 & Special CSS

Frequently, it is remarked about some books that these books changes the identity of the world. Selection of such books is done by the consent of great scholars according to the circumstances. But, some books changes the world positively, while others are responsible for the negative outcomes in the world. It can be estimated from publications of books in any society whether they will profit the world or will confine the world in useless tradition and customs. From this point of view, if we review books published in Pakistan, we will find that these books impacts minds of people through tools of religious sectarianism, emotions, and useless nationalism. This can be seen in today's Pakistani Society.

